

PAKISTAN DOMESTIC
SEASON 2019-20
14 SEP - 24 APR

CRICKET
CHAMPIONS
Inspiring the Nation



قائد اعظم ٹرافی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کے آخری راؤنڈ کا پہلا روز مکمل

- سندھ کے ولید احمد نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھادی
- خیبرپختونخوا کے اسپنر آصف آفریدی کی ایک اننگز میں 5 وکٹیں
- سنٹرل پنجاب کے نثار احمد کے 5 شکار

لاہور، 20 نومبر 2019ء:

نیا ناظم آباد گراؤنڈ کراچی میں سندھ نے بلوچستان کے 170 رنز کے جواب میں 1 وکٹ کے نقصان پر 29 رنز بنالیے ہیں۔ سندھ کے محمد سلیمان 10 اور رمیز راجہ جونیئر 8 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ اس سے قبل بلوچستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جو کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ شہباز خان کے علاوہ بلوچستان کا کوئی بلے باز سندھ کے اسپنر ولید احمد کی عمدہ باؤلنگ کے سامنے زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکا اور پوری ٹیم 170 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ شہباز خان نے 56 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اسپنر ولید احمد نے 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ دانش عزیز نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔

دوسری جانب این بی پی اسٹیڈیم کراچی میں ناردرن کے 208 رنز کے جواب میں خیبرپختونخوا نے پہلی اننگز میں بغیر کسی نقصان کے 42 رنز بنالیے ہیں۔ محمد محسن 23 اور محمد نعیم 18 کے انفرادی اسکور سے کھیل کے دوسرے روز کا آغاز کریں گے۔ اس سے قبل ناردرن نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو خیبرپختونخوا کے اسپنرز آصف آفریدی اور خالد عثمان کی شاندار باؤلنگ کی بدولت پوری ٹیم 208 رنز پر آؤٹ ہو کر پویلین واپس لوٹ گئی۔ ناردرن کی جانب سے سرمد بھٹی 87 اور عمیر خان 40 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان چوتھی وکٹ کے لیے 97 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔ خیبرپختونخوا کے اسپنر آصف آفریدی نے 5 اور خالد عثمان نے 3 وکٹیں حاصل کیں۔

ادھر ڈرننگ اسٹیڈیم بہالپور میں سدرن پنجاب کی پوری ٹیم سنٹرل پنجاب کے خلاف پہلی اننگز میں 281 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے۔ سدرن پنجاب کے مڈل آرڈر بلے باز مقبول احمد 62 اور محمد عمران ناقابل شکست 52 رنز بنا کر ٹاپ اسکورر رہے۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے فاسٹ باؤلر نثار احمد نے 5 اور اسپنر احمد صفی عبداللہ نے 4 کھلاڑیوں کو پولین کی راہ دکھائی۔ سنٹرل پنجاب کی ٹیم اپنی پہلی اننگز کا آغاز کھیل کے دوسرے روز کرے گی۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk